

PRESS RELEASE

For immediate release

July 20, 2022

SECP reconstitutes its Shariah Advisory Committee

ISLAMABAD, July 20: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has reconstituted its Shariah Advisory Committee (SAC) under the SECP Act, 1997.

The SAC is mandated to assist SECP in approving Shariah-compliant issues and guidance for the promotion of Islamic finance within the regulatory ambit of SECP. It has been further mandated to perform functions under rule 25 of the Takaful Rules, 2012.

SAC will be chaired by prominent scholar Dr. Mufti Irshad Ahmed Aijaz, who is also serving as Chairman of SBP's Shariah committee and is a member of the Religious Board for Modarabas. Other members included Mr. Omar Mustafa Ansari, who is a renowned chartered accountant by profession and is presently serving as Secretary General of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Mufti Ehsan Waqar is the third member of SAC, having contemporary qualifications in diverse disciplines apart from the religious qualifications. He is currently serving as Chairman of the Shariah Boards of National Bank and Soneri Bank. The Head of the Islamic Finance Department of SECP and Registrar Mudaraba Mr. Tariq Naseem will serve as the fourth member of the committee.

Apart from the reconstitution of SAC, the SECP also formed a consultation committee to assist in the preparation of the Islamic finance development plan and future roadmap through empirical work, studies, and industry collaboration. The consultation committee has been mandated to prepare a recommendatory report on the capital markets, insurance industry, and other non-bank financial sectors.

The consultation committee will be led by Dr. Irum Saba, Associate Professor at IBA and a globally recognised professional in the field of Islamic finance. Other members of the consultation committee include senior representatives of Islamic asset management, Islamic banks, Modaraba, the capital market, and academia. The chairperson of the committee has been authorised to invite participation from industry while formulating recommendations.

Additionally, the SECP has also designated its officers as "Islamic finance champions" in all its policy functions. They will serve as focal points for concerted and coordinated efforts to promote shariah compliant products and services across the regulated sectors of SECP.

ایس ای سی پی کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کی تشکیل نو کردی گئی

اسلام آباد (جولائی 20) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے، ایس ای سی پی ایکٹ 1997 کے تحت قائم، شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کی تشکیل نو کردی ہے۔ ممتاز مذہبی سکالر جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز کو ایس ای سی پی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کا چیئر مین تعینات کر دی ہے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شریعہ کمیٹی کے بھی چیئر مین ہیں جبکہ مضاربہ بورڈ کے بھی رکن ہیں۔

شریعیہ ایڈوائزری کمیٹی، کمیشن کو اسلامی مالیاتی پراڈکٹ اور خدمات اور شریعیہ کمپلائنٹ ایشوز کے اجراء کے حوالے سے رہنمائی اور منظوری فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شریعیہ کمیٹی تکافل رولز کے تحت بھی بیمہ کی مختلف پراڈکٹ کی منظوری دیتی ہے۔

ایس ای سی پی کی شریعیہ کمیٹی کے دوسرے رکن عمر مصطفیٰ انصاری ہیں جو کہ ایک ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اسلام فنانس انسٹی ٹیوشنز کی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ کمیٹی کے تیسرے ممبر مفتی احسان وقار ہیں جو کہ اسلامی مالیاتی شعبے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان اور سنہری بینک کے شریعیہ بورڈ کے چیئر مین بھی ہیں۔ ایس ای سی پی کے اسلامک فنانس ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ اور رجسٹرار مضاربہ جناب طارق نسیم، شریعیہ ایڈوائزری کمیٹی کے چوتھے رکن ہیں۔

شریعیہ ایڈوائزری کمیٹی کی تشکیل نو کے علاوہ، اسلامی مالیاتی شعبے کے فروغ اور نئی پراڈکٹ کے اجراء کے لئے، اسلامک فنانس ڈویلپمنٹ پلان اور فیوچر روڈ میپ کی تیاری کے لئے بھی ایک الگ مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مشاورتی کمیٹی کیپٹل مارکیٹ، انشورنس اور نان بینکنگ مالیاتی شعبے میں اسلامی پراڈکٹ کے فروغ کے لئے سفارشات مرتب کرے گی۔ مشاورتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ارم صبا ہیں جو کہ آئی بی اے میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک بینکوں، مضاربہ، کیپٹل مارکیٹ اور تعلیمی شعبے سے نامور افراد مشاورتی کمیٹی میں شامل کئے گئے ہیں۔